

پابند کردہ علاقہ کے انفیکشن سے پاک حصول کے لیے مل کر وائرس سے لڑیں

بیماری کی روک تھام اور کنٹرول (بعض افراد کے لیے لازمی ٹیسٹنگ) ٹیسٹنگ کے ضابطے کی پابندی کا اعلامیہ

بیماری کی روک تھام اور کنٹرول کے تحت (بعض افراد کے لیے لازمی ٹیسٹنگ) ضابطہ (شق 599، ذیلی قانون سازی) (الضابطہ)، حد بندی شدہ علاقہ (پابند کردہ علاقہ) کے لیے حکومت مندرجہ ذیل ٹیسٹنگ کی پابندی کا اعلان کرتی ہے

پابند کردہ علاقہ: ووسنگ اسٹریٹ سے اس کے مشرق میں، نانکنگ اسٹریٹ سے اس کے جنوب میں، بیٹری اسٹریٹ سے اس کے مغرب میں، پک ہوئی اسٹریٹ سے اس کے شمال میں

پابند کردہ مقامات: پابند کردہ علاقہ میں تمام رہائشی یا تجارتی مقامات

پابند کردہ افراد: کوئی بھی فرد جو اس وقت پابند کردہ علاقہ میں موجود ہے، اور کوئی بھی شخص جو گذشتہ 14 دن میں دو گھنٹوں سے زیادہ کے لیے کسی بھی پابند کردہ مقامات میں موجود تھا۔

پابند کردہ افراد کی ذمہ داریاں

- لازمی ٹیسٹنگ کرانا (چاہے آپ نے پہلے ٹیسٹ کرایا ہے یا نہیں)
- پابند کردہ علاقہ میں اس وقت موجود افراد کو حکومت کی جانب سے پابند کردہ علاقہ میں قائم عارضی نمونہ جمع کرنے والے اسٹیشنوں پر گروپس میں نیوکلیک ایسڈ ٹیسٹ کرانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ مقرر کردہ افسران آپ کا مشترکہ ناک اور گلے کے سویب کے ذریعے نمونہ لیں گے۔
- جو افراد فی الحال پابند کردہ علاقہ میں موجود ہیں انہیں اس جگہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ وہاں رہیں گے جب تک پابند کردہ علاقہ میں ٹیسٹنگ کے تمام نتائج کا پتہ نہ لگ جائے اور پابندی کا اعلان منسوخ ہو جائے۔
- ٹیسٹنگ کے بعد آپ کو دیئے گئے کلانی کے بینڈ کے ساتھ ساتھ SMS پیغام کو ٹیسٹنگ کے نتائج کی تصدیق کے لیے ساتھ رکھیں۔
- اگر ٹیسٹنگ کا نتیجہ مثبت ہے تو، محکمہ صحت جلد سے جلد آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے اور الگ تھلگ علاج کا انتظامات کرے گا۔ اگر آپ کسی مثبت کیس (جیسے گھر کے افراد) سے قریبی رابطے میں ہیں تو، محکمہ صحت جلد از جلد آپ کو قرنطینہ مراکز میں منتقل کرنے کے انتظامات کے لیے رابطہ کرے گا۔

پابند افراد مدد طلب کر سکتے ہیں

- اگر ایک پابند شخص یا اس کے گھر کے اراکین نقل و حرکت سے معذور ہیں کہ وہ نمونہ جمع کرنے والے عارضی اسٹیشنوں پر نہیں جاسکتے ہیں تو، وہ مقرر کردہ افسر کے ذریعے اپنے علاقہ میں نمونہ جمع کرنے کے انتظامات کے لیے سرکاری افسران سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- اگر کسی پابند فرد کو فوری طبی ضرورت ہو تو، وہ خصوصی انتظامات کے لیے سرکاری افسران سے رابطہ کر سکتا ہے۔

جرم اور سزا

- کوئی بھی پابند فرد لازمی ٹیسٹنگ کے حکم کی یا احاطے سے باہر جانے کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے کا جرم کرتا ہے اور جرم ثابت ہونے پر تو اسے زیادہ سے زیادہ 10,000 یا 25,000 جرمانہ اور چھ ماہ قید کی سزا ہوسکتی ہے

پوچھ گچھ اور سرکاری افسران سے رابطہ

ہاٹ لائن: 2399 6949 / 2399 2139 / 2835 1473

نسلی اقلیتوں کے لیے ہاٹ لائن: 3755 6816

آپ کے مکمل تعاون کے ساتھ، ہم پوری کارروائی کو 48 گھنٹوں میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے ہیں (25 جنوری (پیر) کو صبح 6 بجے لوگوں کے کام پر جانے سے پہلے مکمل ہونے کی امید کرتے ہیں)۔

- ختم شد -